

ہاتھ سے چھپکی مارنا

قتل الوزغ بالید

[اردو - اردو - urdu]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ

تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



ہاتھ سے چھپکلی مارنا

کیا ہاتھ سے چھپکلی قتل کرنا ثابت ہے ، اور کیا اس کے قتل کرنے میں اجر و ثواب ثابت ہے ؟

الحمد لله

چھپکلی قتل کرنے کی بہت سے دلائل ہیں جن کی بنا پر اسے قتل کرنا مشروع ہے چاہے اسے کسی چیز کے ساتھ قتل کیا جائے ، اور کسی بھی روایت میں یہ تخصیص نہیں ملتی کہ اسے کسی آلہ کے بغیر صرف ہاتھ سے مارا جائے ، اور میرے خیال میں نہ تو یہ وارد ہے اور نہ ہی صحیح ہے کہ اسے ہاتھ سے مارا جائے اور پھر یہ تو اسلامی ہدایات اور اخلاق عالیہ سے بھی بہت بعید ہے ۔

صحیحین وغیرہ میں سعید بن مسیب سے نقل کیا گیا ہے کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیاں قتل کرنے کا حکم دیا تھا ۔

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مارتی تھی) یعنی اس آگ پر پھونک مارتی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا ۔

اور صحیح مسلم میں عبدالرزاق اخبرنا معمر بن الزہری عن عامر بن سعد عن ابیہ کے طریق سے روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فویسق کا نام دیا تھا ۔

چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اس کے مقابلہ میں جو اسے دوسری ضرب میں قتل کرتا ہے اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے جو امام مسلم نے خالد بن عبداللہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کیا تو اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی ، اور جس نے دوسری ضرب میں قتل کیا تو اس کو اتنی اتنی نیکیاں



پہلے سے کم ملیں گی ، اور اگر اس نے تیسری ضرب میں قتل کیا تو اس کو اتنی اتنی نیکیاں دوسری سے کم ملیں گی) -
الشیخ سلیمان العلوان -

اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں سائبۃ مولاۃ الفاکھتہ بن المغیرۃ سے روایت کی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا تو وہ کہنے لگیں اے ام المومنین آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں ؟ تو وہ فرمانے لگیں ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو قتل کرتی ہیں بلاشک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجھا رہا تھا لیکن چھپکلی اس پر پھونکیں لگاتی رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا -

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (۳۲۲۲) اور زوائد میں کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں -
واللہ تعالیٰ اعلم .